

رول نمبر:



جماعت دہم
فزیکل ایجوکیشن
(حصہ معروضی)

FBD-24

Objective Paper

Code

کل نمبر: 12

وقت: 15 منٹ

7421

سوال نمبر 1 ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیے گئے ہیں۔ جہاں کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا تین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو نہ کرنے یا کاٹ کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

نمبر شمار	سوالات / Questions	A	B	C	D
1	جسم کی نشوونما کے لئے ضروری ہے: It is necessary for the growth of body:	لحمیات Proteins	روغنیات Fats	نمکیات Salts	پانی Water
2	اچھا کھلاڑی کس خوبی کا مالک ہوتا ہے؟ Good player possesses:	بدانہائی Bad habits	انظم و ضبط Discipline	غیر اخلاقی Immoral	دہی Superstitious
3	تفریح سے حاصل ہوتی ہے: What gives us recreation?	حسرت Sadness	دکھ Curb	خوشی Happiness	درد Pain
4	آبادی سے دور و فربہ ماحول میں شب بسر کی کہلاتی ہے: To spend night in the best environment far away from population is called:	شعری رات Cool night	تفریح Recreation	نفاست Delicate	کیسپنگ Camping
5	جراثیم کو ہلاک کرتی ہے: It kills the germs:	ہوا Air	ریٹ Sand	دھوپ Sunshine	شبنم Dew
6	ہاکی کے میدان کی لمبائی والی لائن کہلاتی ہے: The name of lengthy side of the hockey ground is:	ٹچ لائن Touch line	بیک لائن Back line	اینڈ لائن End line	سائڈ لائن Side line
7	مردوں کے لئے تھالی کا وزن ہوتا ہے: Weight of discus for men:	1 kg	2 kg	3 kg	4 kg
8	ٹیبل ٹینس میز کی لمبائی ہوتی ہے: What is the length of table in table tennis?	2.74 m	1.74 m	3.74 m	4.74 m
9	ہاکی کے کھیل میں ریفری ہوتے ہیں: Referees of hockey game are:	1	2	3	4
10	100 × 4 میٹر ڈاک دوڑ میں بیٹھن کی تبدیلی کا علاقہ ہوتا ہے: The baton changing zone in 4 × 100 meter relay race is:	5 m	10 m	15 m	20 m
11	لمبی چھلانگ میں ایک آف بورڈ کی لمبائی ہوتی ہے: The length of takeoff board for long jump:	1.21 - 1.22 m	1.26 - 1.27 m	1.31 - 1.32 m	1.38 - 1.39 m
12	انسانی جسم میں کتنے نظام کام کرتے ہیں؟ How many systems work in human body?	9	10	11	12

1034-X124-15000

A

تمامت نام
فزیکل ایجوکیشن (حصہ انشائی)
کل نمبر: 48 وقت: 01:45 گھنٹے FBD-24
(Part - I حصہ اول)

- 10 Write short answers to any FIVE parts.
Which diseases are spread through substandard diet?
Write two characteristics of a good player.
Write the characteristics of air.
Write two remedial exercises of flat foot.
Write two objectives of recreation.
Define recreation.

- 2- کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات لکھئے۔
(i) غیر معیاری غذا سے کون سی بیماریاں پھیلتی ہیں؟
(ii) اچھے کھلاڑی کے دو اوصاف بیان کیجئے۔
(iii) ہوا کی خصوصیات تحریر کیجئے۔
(iv) چپے پاؤں کی دو اصلاحی ورزشیں تحریر کیجئے۔
(v) تفریح کے دو مقاصد تحریر کیجئے۔
(vi) تفریح کی تعریف کیجئے۔
(vii) چھوٹے رقبے کے کھیلوں سے بچوں کو کون سے فوائد حاصل ہوتے ہیں؟

- What benefits children get from short area games?
Write the comprehensive definition of play.

- (viii) کھیل کی جامع تعریف کیجئے۔

- 10 Write short answers to any FIVE parts.

- 3- کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات لکھئے۔

- Write two rules of table tennis.
What is the length of landing area in long jump?
Write two rules of discus.
What is visual method in baton changing?
How service is done in table tennis?
How the hockey game is started?
How many players take part in 4×100 meter relay race?
How can do a goal in hockey? Explain.

- (i) نیپل ٹینس کے دو قوانین تحریر کیجئے۔
(ii) لمبی چلانگ میں اکھاڑے کی لمبائی کتنی ہوتی ہے؟
(iii) تھالی کے دو قوانین تحریر کیجئے۔
(iv) بیٹن تبدیل کرتے وقت بصری طریقے کی وضاحت کیجئے۔
(v) نیپل ٹینس میں سروں کیسے کی جاتی ہے؟
(vi) ہاکی کے کھیل کا آغاز کس طرح ہوتا ہے؟
(vii) 4×100 میٹر ایک دوڑ میں کتنے کھلاڑی حصہ لیتے ہیں؟
(viii) ہاکی میں گول کرنے کی وضاحت کیجئے۔

- 10 Write short answers to any FIVE parts.

- 4- کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات لکھئے۔

- Write two benefits of tea.
What is meant by infectious diseases?
Write two causes of round back.
What is meant by hiking?
What is the purpose of balanced diet?
Write the importance of camping.
Which age is of posture defectiveness?
What is meant by non-alcoholic drinks?

- (i) چائے کے دو فوائد تحریر کیجئے۔
(ii) متعدی امراض سے کیا مراد ہے؟
(iii) گول کمر کی دو وجوہات تحریر کیجئے۔
(iv) ہائیکنگ سے کیا مراد ہے؟
(v) متوازن غذا کا کیا مقصد ہے؟
(vi) کیوہنگ کی اہمیت بیان کیجئے۔
(vii) قاتمی نقائص عموماً کب پیدا ہوتے ہیں؟
(viii) غیر الکحلی مشروبات سے کیا مراد ہے؟

حصہ دوم، کوئی سے دو سوالات کے جوابات تحریر کیجئے۔ ہر سوال کے 09 نمبر ہیں۔
Part - II, Attempt any TWO questions. Each question carries 09 marks.

- What is meant by physical fitness? Write its importance.
Write the rules for 4×100 meter relay race.
Draw hockey ground sketch and write its measurement.

- فزیکل فٹنس سے کیا مراد ہے؟ اس کی اہمیت بیان کیجئے۔
4×100 میٹر ایک دوڑ کے قوانین تحریر کیجئے۔
ہاکی گراؤنڈ کا خاکہ بنائیے اور پیمائش لکھئے۔